

برائے فوری اجراء

## برامپٹن، مسی ساگا اور کیلیڈون میں ریجن آف پیل کے ٹیکس دہندگان کے بہترین مفادات کے تحفظ کے لیے برامپٹن کونسل نے ایک رائے شماری کا انعقاد کیا ہے

برامپٹن، آن (22 مئی 2019) - برامپٹن سٹی کونسل کی کل شام منعقد ہونے والی ایک خصوصی میٹنگ کے دوران برامپٹن سٹی کونسل نے ریجن آف پیل کی بالائی سطح پر طرز حکمرانی اور سٹی آف برامپٹن کونسل کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے منفقہ طور پر ایک قرارداد کی منظوری دی ہے۔ اس قرارداد میں طے پایا ہے کہ:

"یہ کہ برامپٹن کے رہائشیوں کی معاونت کے ساتھ اور پیل ریجن کے ٹیکس دہندگان کے بہترین مفادات کے تحفظ کے لیے، برامپٹن سٹی کونسل ریجن آف پیل کی بالائی سطح پر طرز حکمرانی اور سٹی آف برامپٹن کونسل کی زیریں سطح کی طرز حکمرانی کی ساخت کو برقرار رکھنے کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ یہ کہ سٹی آف برامپٹن، اونٹیریو کی حکومت کو موجودہ ساخت کو برقرار رکھنے کی سفارش کرتا ہے"

پیل ریجن کے ٹیکس دہندگان کے مفادات کے تحفظ کے بارے میں کیے جانے والے اس فیصلے کو اسپیشل ایڈوائزرز کو بھجوا دیا گیا ہے جو علاقائی حکومتوں کے صوبائی جائزے کی قیادت کر رہے ہیں۔

کونسل کو ڈیلویٹ (Deloitte) کی جانب سے ایک خودمختارانہ جائزہ موصول ہوا ہے جس کے مطابق ریجن آف پیل کو توڑنے کی وجہ سے برامپٹن، مسی ساگا اور کیلیڈون کے ٹیکس دہندگان کو زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔

ارنیسٹ اینڈ ینگ (E&Y) نے بھی ایک مالیاتی تجزیہ فراہم کیا ہے جس کے مطابق یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ پیل میں بالائی سطح پر طرز حکمرانی کی مجوزہ تبدیلیوں کی وجہ سے ان تینوں کمیونٹیوں کے ٹیکس دہندگان کو زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔

اثاثوں اور سروسز کی نگہبان ہونے کے ناطے شہر کو اچھے طریقے سے چلانا کونسل کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے سٹی اپنے رہائشیوں کو بہترین اور مؤثر سروسز کی بہترین فراہمی کے لیے ہمہ وقت کوشاں اور پرعزم ہے۔

اپریل کے مہینے سے لے کر اب تک سٹی نے اپنے رہائشیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو عمومی علاقائی طرز حکمرانی کے تین آپشنز کے حوالے سے فعال طور پر وابستہ رکھا ہوا ہے، یعنی:

- ایک علیحدہ شہر بننا (یعنی ریجن کو تحلیل کر دینا)
- تینوں میونسپلٹیوں کو ملا کر ایک بڑا شہر بنانا
- موجودہ ساخت کو برقرار رکھنا

اس سال کے آغاز میں، صوبہ اونٹیریو نے علاقائی حکومتوں کا جائزہ لینے کا آغاز کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاقائی حکومتیں ممکنہ حد تک مؤثر اور کارگر طریقے سے کام کرتی ہوں اور جن ضروری سروسز پر کمیونٹی انحصار کرتی ہے وہ سروسز انہیں تسلسل کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہوں۔ علاقائی طرز حکمرانی کے حوالے سے حتمی فیصلہ صوبہ اونٹیریو نے کرنا ہے اور یہ 2019 میں ہی متوقع ہے۔

### سرخیاں

- سٹی نے کئی طریقوں سے کمیونٹی کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا ہے، بشمول ٹاؤن ہال میں ٹیلیفون، ٹاؤن ہال کی ایک میٹنگ، آن لائن سروے، ایک فریق ثالث کی جانب سے منعقد کیا جانے والا ایک تفصیلی سائنسی مطالعہ اور سٹی کی ویب سائٹ پر موجود ایک آن لائن رابطہ فارم کی فراہمی
- عوام کی جانب سے موصول ہونے والی آراء کے مطابق، عوام کی اکثریت نے ریجن آف پیل کی موجودہ ساخت کو برقرار رکھنے کی رائے دی ہے
- اخراجات اور سروسز کی فراہمی کو مدنظر رکھتے ہوئے، ریجن سے علیحدہ کرنے کے اخراجات پر عوام نے بڑی حد تک تشویش کا اظہار کیا ہے
- مین اسٹریٹ ریسرچ (Mainstreet Research) کی جانب سے منعقد کی جانے والی عوامی رائے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 10 میں سے 7 رہائشیوں (66.4%) نے پیل ریجن کی بالائی طرز حکمرانی کی ساخت کو بحال رکھنے کی حمایت کی ہے

- اس حوالے سے صوبہ اونٹیریو کی جانب سے منسٹر آف میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ کے ذریعے ان کی مجوزہ سفارشات کے اعلان کی جلد توقع کی جا رہی ہے
- اس بارے میں صوبہ کے خصوصی ایڈوائزرز کی جانب سے منسٹر آف میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ کے پاس اپنی سفارشات جمع کرانے (موسم گرما 2019 کے اوائل میں) کے بعد کسی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا

#### اقتباس

"رہائشیوں نے کونسل کو بڑے واضح الفاظ میں رائے دی ہے کہ موجودہ پیل ریجن اور سٹی کونسل کی طرز حکمرانی کی حالیہ ساخت کے ساتھ بحال رہنا ان کی ترجیحی رائے ہے۔ عوام کا بنیادی خدشہ اس پر اٹھنے والے غیر واضح اخراجات تھا اور ہم مؤثریت اور اپنے ٹیکس دہندگان کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشاں اور پر عزم ہیں۔ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنی سروسز کو بہترین مگر ممکنہ حد تک کم لاگت کے ساتھ اپنے رہائشیوں کو فراہم کریں۔ ڈیلویٹیٹ اور E&Y، دونوں کی جانب سے پیش کردہ مالیاتی تجزیوں سے یہ بات واضح ہے کہ ریجن کو تحلیل کرنے یا ضم کرنے سے مسی ساگا، برامپٹن اور کیلیڈون کے ٹیکس دہندگان پر اخراجات کا بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ صوبہ سے ہماری گزارش ہے کہ ریجن آف پیل کو نہ چھیڑا جائے اور ٹیکس دہندگان کی رائے کو ترجیح دی جائے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

#### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)